

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم، و آله و صحبه أجمعين

Ow'ekitiibwa الله سبحانه و تعالى، tumutenda n'amatendo amalungi, era amajjuvu, tumusaba الله سبحانه و تعالى asse okusaasira n'emirembe ku Nabbi waffe محمد ﷺ, n'abantu b'enjuuye, ne ba swaahaba be, n'abakkiriza bonna okutuusa ku lunaku lw'enkomerero.

Twaalaba hadith bbiri, hadith ya أبو سعيد الخدریّ nga mu yyo Omubaka محمد ﷺ agamba nti;

"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ"

Amazzi gabeera matukuvu ebbanga lyonna, era gasobolo n'okutukuza ekintu ekirala ebbanga

lyonna,

"لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ"

Teri kiyinza kukyaafuwaza mazzi, amazzi gabeera matukuvu ebbanga lyonna, era gabeera

n'obusobozi obutukuza ekintu ekirala ebbanga lyonna, "لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ", teri kiyinza

kugakyaafuwaza.

Ebyo nno Omubaka محمد ﷺ yabyoogera nga asinziira ku kibuzo أبو سعيد kyeyali amubuuzizza ku mazzi g'oluzzi lwebayita "بُضَاعَةٌ", oluzzi olwo mwaalingamu ebikyaafu ebyenjwulo, mwaalimu obugoye abakyaala bwebeyambisaanga mu **periods[nga bagenze mu nsonga]** zaabwe, bwaalimu mu luzzi olwo, emiguunwa j'embwa oba emirambo j'embwa j'alimu mu luzzi olwo, n'ebintu ebirala ebyenyinyaza ebiwunya ekivundu, ebikyaafu byonna byaalimu mu luzzi olwo, kyokka أبو سعيد n'asanga Omubaka محمد ﷺ nga asitamye ku luzzi olwo ali mu kufuna wuzu ﷺ, afunisa mazzi ki?, afunisa mazzi ga luzzi olwo!, olulimu ebyo byonna by'owulidde, أبو سعيد yekaanga era ky'amweewunyisa nnyo!, kweekubuuza nti; "يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّوَضَّأُ"

oba "اتوضأ؟", byombi bituufu.

"اتوضأ من بئر بضاعة؟"

Owange ggwe Omubaka wa Allah!, ofunisa amazzi g'oluzzi olwo "بضاعة" wuzu?!

"وَهِيَ بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن"

Ng'okimanyidde ddala bulungi nnyo nti oluzzi olwo, obugoye abakyaala bwebeyaambisa mu **periods[nga bagenze mu nsonga]** zaabwe basuula omwo, emiguunwa j'embwa jiri omwo, mulimu n'ebintu ebirala ebivundu ebyeenyinyaza, ebiwunya ekivundu, byonna biri omwo, mulimu ebintu ebikyaafu biyitirivu, kyokka ate ggwe gemazzi g'oli mu kufunisa obuwuzu?!

Swahaaba ng'alaba tekijja, ago amazzi makyaafu!, ago amazzi ssi matuufu ga kufunisa wuzu!, ago amazzi omuntu tekikirizibwa kweetukuza nago kubanga makyaafu!.

Omubaka **عليه الصلاة والسلام** kweekumuddamu, n'amugamba nti: "إنَّ الماءَ طهورٌ"

Amazzi newankubadde nga ebyo byonna by'oyogedde mweebiri mu luzzi luno, newankubadde nga kiringa bw'oyogedde, ebikyaafu byonna by'oyogedde mu luzzi luno mweebiri, naye amazzi ggo gasigala matukuvu, era gasigala n'obusobozi obutukuza ekintu ekirala ebbanga lyonna,

"لا ينجسه شيء"

Kw'ebyo byonna ebiri mu luzzi luno temuliimu kiyinza kukyaafuwa mazzi gano, temuliimu kiyinza kugakyaafuwaza.

Lwaaki Omubaka **محمد ﷺ** ayogera bwaatyoo?, newankubadde nga oluzzi luno lwaalimu ebikyaafu nga bw'owulidde, mwaalimu ebintu eby'enyinyaza, naye ate lwaaki Nabbi agamba nti amazzi agali mu luzzi luno matukuvu era gasobola n'okutukuza ekintu ekirala, teri kisobola kugakyaafuwaza, abaffe ekyo kyaali kyeeyawulidde luzzi olwo lwokka?, oba kibuna ne ku nzizi endala?, kyaali kyeeyawulidde mazzi ga luzzi olwo lwokka oba kibuna ne ku mazzi amalala?

Okwaanukula nti: ekyo Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ kyeyayogera tekyeeyawulidde luzzi lwa "بُضَاعَةٌ" lwokka, wabula kizingiramu n'enzizi endala, tekyeeyawulidde mazzi ga "بُضَاعَةٌ" gokka, wabula kizingiramu amazzi wonna w'obeera ogasaanze, gabeera matukuvu era nga gayina n'obusobozi obutukuza ekintu ekirala.

Okujjako!, awo wetuleetera hadith ya أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، amakulu nti mu hadith ya أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ agamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ", amazzi ebbanga lyonna gabeera matukuvu, era ebbanga lyonna gabeera n'obusobozi obutukuza ekintu ekirala, "إِلَّا", okujjako, "مَا غَلَبَ عَلَيَّ رِيحُهُ", ekyo ekidominetinga empunya y'amazzi, "وَ طَعْمِهِ", n'empooma y'amazzi, "وَلَوْنِهِ", ne langi y'amazzi.

Hadith eyo eya أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ mu رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eyo, ezingiramu ekintu kyonna ekiyinda okugwa mu mazzi nekikyusa langi, empunya ne mpooma, nga kitukuvu oba nga kikyaaфу, kubanga Omubaka agambye nti;

"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ"

Amazzi gabeera matukuvu ebbanga lyonna era nga gasobola n'okutukuza ekintu ekirala,

"إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيَّ رِيحُهُ"

Okujjako ekyo ekigaguddemu oluvannyuma lw'okugwa mu mazzi nekidominetinga_ empunya y'amazzi okukkakkana nga amazzi gakyuusizza empunya olw'ekyo ekigaguddemu, oba nekidominetinga empooma y'amazzi, empooma y'amazzi n'ekyuuka, oba nekidominetinga e'langi y'amazzi, amazzi negakyuusa e'langi.

Ekintu ekyo ekigudde mu mazzi kizingiramu ekitukuvu n'ekitali, okujjako رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eno endala yejjayo obulungi ekifaananyi nti ekigudde mu mazzi nekigaviirako okuba ntinno gakyaaфуwala, ekigwa mu mazzi tulyooke tugalamuleko okuba ntinno gakyaaфуwadde, kiteekeddwa okuba nga اُنْجُسُ [obukyaafu], nga kikyaaфу.

Wabula **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eno eri mu **سُنُّ ابْنِ مَاجَه** yo ezingiramu byonna ebitukuvu ebigudde mu mazzi nebigakyuusa e'langi, empunya n'empooma, oba ebitali bitukuvu, ebikyaafu ebigudde mu mazzi nebigakyuusa empunya, empooma ne langi.

Kati **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ate eri mu **بَيْهَقِي**, Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yagamba nti:

"الماءُ طاهرٌ"

Amazzi gabeera matukuvu ebbanga lyonna

"إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِجَنَاسَةٍ تُحَدَّثُ فِيهِ"

Okujjako singa amazzi gano gakyuusa empunya yaago oba empooma yaago oba negakyuusa e'langi yaago, **"بِجَنَاسَةٍ"**, nga ekimu kweebyo ebisatu kikyuka olwe **نَجَسٌ** [Obukyaafu]

"تُحَدَّثُ فِيهِ"

Egudde mu mazzi.

Kati singa ekintu ekibalibwa mu busiraamu nti kiyaaafu, ekintu ekitwaalibwa okuba nti **نَجَسٌ** [kikyaafu] mu diini yaffe busiraamu kigwa mu mazzi, amazzi ago negakyuusa e'langi olwe **نَجَسٌ** [Obukyaafu] eyo egaguddemu oba negakyuusa empooma olw'obukyaafu obwo obugaguddemu, amazzi ago gabalibwaako okuba nti nago gakyaaafuwadde olw'obukyaafu obwo obugaguddemu_.

Kati hadith ya **أَبُو سَعِيدٍ** **nga tujizzeeko**, Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** swahaaba ono okumusanga nga ali mu kufunisa amazzi ga **"بُضَاعَةٌ"** obuwuzu despite the fact nti ebikyaafu ebyo byonna swahaaba byeyayogera byaalimu mu mazzi!, naye ate Nabbi n'asigala nga agafunisa obuwuzu, kyaali kitegeeza nti amazzi ago obukyaafu buno obwaali bugaguddemu, bwaali tebukyuusizza mpooma yaago, yadde empunya yaago, yadde e'langi yaago, gaasigala ku normal yaago, gaasigala ku butonde bwaago, newankubadde nga gaalimu ebikyaafu ebyo byonna, **naye ate gaasigala ku**

langi yaago, empunya yaago n'empooma yaago, era y'ensonga lwaaki ntinno Omubaka عَلَيْهِ السَّلَامُ swahaaba ono amusanga nga agafunisa e'wuzu, mu رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] endala yamusanga ali "namukunwa!", kubanga mazzi matukuvu era gayina n'obusobozi obutukuza ekintu ekirala, lwaaki?, tegannakyuusa langi, tegannakyuusa mpooma, tegannakyuusa mpunya yaago newankubadde nga galimu ebikyaafu!.

Kati ebikyaafu okugenda mu mazzi tekiramuzisa ku mazzi ago kuba nti gakyaafuwadde!, amazzi gasobola okugendamu obukyaafu naye negasigala nga matukuvu era nga omuntu asobola okweetukuza nago ebbanga lyegamala nga obukyaafu obwo tebugaviiriddeeko kukyuuka mu langi, tebugaviiriddeeko kukyuuka mu mpunya yadde mu mpooma, gasigala mazzi matukuvu agasobola n'okutukuza ekintu ekirala_.

Mu zimu ku nnamula zetujja mu hadith ezo ebbiri nga tugenda kuzikookerako hadith ezo ebbiri, hadith eyookusatu jetugenda okulaba, hadith ya ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا, wabula ezimu ku nnamula zetujja mu hadith ezo ebbiri;

ESOOKA

Amazzi agakozeseddwaako mu kwejjako ekizuusi, amazzi,

"المُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ"

Amazzi omuntu geyeyaambisizza mu kuba ntinno yejjako ekizuusi, amazzi omuntu geyeyaambisizza mu kuba nti yeetukuza okuva eri ekizuusi.

N'abagamba nti kyebayita ekizuusi y'embeera ebeera ku muntu etamusobozesa kuba ntinno ayamirizaawo sswalah, ekyo kyebayita ekizuusi, embeera omuntu j'abaamu nga temusobozesa kuba ntinno ayimirizaawo sswalah okujjako nga asoose kweetukuza, eyo embeera jetuyita ekizuusi.

Kati singa omuntu abadde n'ekizuusi nga kimweetaagisa kufuna wuzu, oba yakojobyee, oba yagenze mu haajah ennene jetuyita "long call", omuntu ono n'aba nga kimweetaagisa okufuna e'wuzu, amazzi n'ageeyambisaako mu kufuna obuwuzu newabaawo amazzi

agasigalawo, agafikkawo oluvannyuma lwa yye okufuna e'wuzu naddala nga amazzi ago gabadde mu kyombo ekiri open, esobola okubeera ebaafu, esobola okubeera esseffuliya oba esseppiki, esobola okubeera entamu, waliwo enjawulo wakati wesseffuliya n'entamu!, entamu b'abumbanga mpumbe sso nga ate zzo esseppiki b'aziweesanga buweesa mu byuuma n'ebisigadde, amazzi ago gasobola okubeera mu kkalaayi oba mu kyombo kyonna ekiri open, omuntu naaba nga mwaafunira e'wuzu, bw'akwaatamu bwaafuna e'wuzu, bw'akwaatamu bwaafuna e'wuzu, oluvannyuma lwa yye okufuna e'wuzu newabaawo amazzi agafikka mu bbaafu j'abadde afuniramu e'wuzu, newabaawo amazzi agafikka mu sseffuliya oba entamu oba ekkalaayi mw'abadde afunira e'wuzu, abaffe amazzi ago galamulwa gatya?.

Okwaanukula nti: Omubaka محمد ﷺ yagamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُجَسَّهُ شَيْءٌ"

Amazzi gabeera matukuvu ebbanga lyonna era gasobola n'okutukuza ekintu ekirala, teri kisobola kugakyaafuwaza okujjako ekyo ekigagenzeemu nga kikyaafu nekikyuuusa e'langi yaago, oba empunya yaago oba empooma yaago.

Kati abaffe amazzi gano omuntu gaafunisizzaako e'wuzu negasigalawo, gakyuusizza e'langi, mpunya oba mpooma?, yye abaffe bwegaba gakyuusizza ekimu kw'ebyo, gakyuuse lwaakuba ntinno ekigaguddemu كَيْسُ[kikyaafu] oba nedda?.

Bwekiba nga gakyuuse mu langi, mu mpunya n'empooma olwe كَيْسُ[Ekikyaafu] egaguddemu ago amazzi gabalibwa nti gakyaafuwadde!, wabula bwegaba nga tegakyuuse kitendo mu bitendo byaago, nga tegakyuusizza kitendo kyonna mu bitendo byaago oba nga gakyuuse naye ssi lwa كَيْسُ[kikyaafu], ago amazzi gasigala matukuvu era omuntu akkirizibwa okuba ntinno yeetukuza nago_.

Amazzi omuntu geyeyambisizzaako mu kuba ntinno yeetukuza okuva eri ekizuusi negasigalawo, negafikkawo, yye mwenyini akkirizibwa okuddamu neyeetukuza n'amazzi

ago singa abeera afunye obweetaavu bw'okweetukuza obulala?, oba omuntu omulala ayina obweetaavu bw'okweetukuza akkirizibwa okweetukuza n'amazzi ago?.

Okwanukula nti: yye,,,sseeka twaagala bujulizi?!.

Nabbi agambye nti: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ"

Newankubadde nga amazzi g'oluzzi luno "بُضَاعَةٌ" galimu ebikyaafu n'ebyeenyinyaza ebirala, naye gasigadde mazzi matukuvu agasobola n'okutukuza ekintu ekitrala, teri kintu kisobola kugakyaafuwaza!, okujjako ekikyaafu ekigaguddemu nekikyuusa e'langi yaago, oba empunya yaago, oba empooma yaago, gano tegayina kintu kyonna kweebyo kikiyuuse lwa [kikiyaafu]!, gasigala mazzi matukuvu era omuntu omulala yenna akkirizibwa okuba ntinno yeetukuza nago.

Ekyo nno ky'ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi;

- Ky'ekigambo ky'aba مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno]
- Ky'ekigambo ky'aba ظَاهِرِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno]
- Ky'ekigambo ky'abamu kuba شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno]
- Era y'emu ku ndaba za إِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى mu ((مَسْأَلَةٌ)) ago, era kiriko n'abamanyi abalala bayitirivu mu bamanyi abedda n'abamanyi ab'omulembe guno
- Ekigambo ekyo ky'ekigambo kya سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
- Ky'ekigambo kya سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
- Ky'ekigambo kya عَطَا بْنُ أَبِي رَبَّاحٍ
- Ky'ekigambo kya أَبُو ثَوْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى mu bamanyi b'omulembe guno.
- Ky'ekigambo kya شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
- Era ky'ekigambo kya مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَثِمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

- Ky'ekigambo kya ابْنِ بَارِزٍ,
- ky'ekigambo kya البَّانِي

رَحْمَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ.

Bonna beseembesa bujulizi obwo, mpozi ne Ayah ebbiri nga emu eri mu Surat Al-furqaan

﴿...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾: [سُورَةُ الْفُرْقَانِ: 48]

Ne Ayah eri mu Surat Al-anfaal, [سُورَةُ الْأَنْفَالِ: 11] ﴿...وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...﴾

Eyo ensonga tujiramuzisizza hadith ezo ebbiri, طَيِّب.

ENSONGA NAMBA BBIRI

Amazzi omuntu g'akozesezzaako mu kwennyogoza, omuntu abadde awulira ebbugumo, n'akwaata ebbaafu nga mulimu amazzi, bwaasena muli bw'anaaba, bweyeeyiira bweyeeyiira, bbugumu limukutte, newabaawo amazzi agafikka mu kyombo, ago amazzi agafisse mu kyombo oluvannyuma lw'ono okwennyogozaako galumulwa gatyaa?, gasigala matukuvu oba gaba gakyaaafuwadde?.

Okwaanukula nti: amazzi ago gasigala matukuvu era nga omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago, ago agafisse mu bbaafu, agafisse mu sseffuliya oba mu kyombo ekirala kyonna, gasigala mazzi matukuvu era omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza n'amazzi ago.

Lwaaki?, Omubaka yatugamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يَجْسُهُ شَيْءٌ"

Amazzi gasigala matukuvu era nga omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago, teri kintu kyonna kiyinza kugakyaafuwaza.

Eyo ensonga nayo tujiramuzisizza hadith eyo eya أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ mpozi ne hadith ya أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ, amazzi omuntu geyeyaambisizzaako mu kwennyogoza, mu kwejjako ebbugumo, gasigala mazzi matukuvu era omuntu omulala akkirizibwa okuba ntinno yeetukuza nago.

Ekyo nno ekigambo **اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ** kukyo, abamanyi bonna beegatta kukyo **رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**.

Wano wennyini kambeeko n'akasonga kendeeterawo nga nako kakulu **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**.

Abamanyi ba **فَقْهُ**[Fiqh] bagamba nti kya bwatteeka, **kano kawulirize bulungi, kawandiike ne pen emmyuufu mu bwongoobwo kaleme kusiimuuka!**

Abamanyi ba **فَقْهُ**[Fiqh] bagamba nti kya bwatteeka omuntu okumanya ebintu bibiri;

EKISOOKA: okumanya ebintu abamanyi byebeegattako, ekyo kya bwatteeka okubimanya.

EKYOOKUBIRI: kya bwatteeka okumanya ebintu abamanyi byebaayawukanamu.

Lwaaki kya bwatteeka eri abamanyi ba **فَقْهُ[Fiqh] omuntu okumanya ebintu abamanyi byebeegattako?**

Kyabwatteeka omuntu okumanya ebintu abamanyi bye beegattako aleme okwaawukana ku kintu abamanyi kyebeegattako, bw'omanya nti ensonga gundi abamanyi b'ajeegattako kigenda kukuyambako, kigenda kukusobozesa obutayawukana ku kweegatta kw'abamanyi, naye bw'onaaba nga tomanyi nti ensonga gundi abamanyi b'ajeegattako oyinza obutawona kwaawukana ku kweegatta kw'abamanyi kubanga oba tomanyi, ekyo kimu.

Ekyookubiri, lyaaki ky'abwatteeka omuntu okumanya ebintu abamanyi byeb'ayawukanamu?.

Ky'abwatteeka omuntu okumanya ensonga abamanyi zeb'ayawukanamu kimusobozese, era kimuyambeko okumanya nti singa mba nsaanze omuntu omulala nga ayogedde ekigambo ekyawukana n'ekyaange kyendiko, sigenda kumuwalampa kubanga ekigambo kye waliwo abamanyi abakiriko, nange ndi ku kigambo ky'abamanyi balala, oli yatwaala kyaabali, nange natwaala kyaabano, ekyo kigenda kubayambako okusigaza obumu wakati wammwe, newankubadde nga mwaawukanye mu **((مَسْأَلَةٌ))**, naye omuntu atamanyi nti ensonga gundi abamanyi b'ajaawukanamu, yye nga amanyi ekigambo kimu mu **((مَسْأَلَةٌ))** ago, kigenda kumulowoozesa nti

ekigambo ekyo ky'amanyi mu ((مَسْأَلَةٌ)) ago ky'ekigambo kyokka ekituufu omuntu ky'ateekeddwa okubeerako, bw'anaalaba omuntu omulala nga ali kukyaawukana ku kikye agenda kulowooza nti omuntu oli mwonoonefu, oba okulowooza nti omuntu oli ((جَاهِلٌ)), tayina ky'amanyi, ssi mumanyi, mubuyabuya!, oba okulowooza nti omuntu oyo munna bid'ع[azuula mu ddiini], n'ebirala ebifaanaganako bweebityo, sso nga ate ssi bweekityo bwekiri, oli yatwaala kigambo kya mumanyi mulala nga naawe wewatwaala ekigambo ky'omuntu omulala, omumanyi oli gweyataambulirako ayina obujulizi, naawe owuwo gwewataambulirako naye ayina obujulizi_.

Sso, ensonga eyo abamanyi bageegattako nti amazzi ago omuntu g'anaabisizzaako olunaaba olw'okwennyogoza newabaawo agafikka mu kyombo ky'abadde anaabiramu, ago amazzi gabeera mazzi matukuvu era omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago.

Bujulizi ki ku nsonga eyo?,

﴿...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾: [سُورَةُ الْفُرْقَانِ: 48]

﴿...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...﴾: [سُورَةُ الْأَنْفَالِ: 11]

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ...))

((الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ))

Obujulizi obwo obw'emirundi ena bwetweeyambisizza mu ((مَسْأَلَةٌ)) ago, طَيِّبٌ_.

A ((مَسْأَلَةٌ)) amalala, gano ggo tubadde tujja kugasaangayo mu maaso naye tewali kitugaana ate kugoogererako wano بِإِذْنِ اللَّهِ.

Amazzi omusajja g'anaabyemu janaba, omusajja abadde ne janaba n'afuna ebbaafu nga mulimu amazzi n'anaaba janaba nga yeyaambisa amazzi okuva mu bbaafu eyo, newabaawo amazzi agafissewo oluvannyuma lwa yye okunaaba janaba, amazzi ago galumulwa gatya?, gasigala mazzi matukuvu oba gaba gakyaafuwadde?.

Abamanyi b'ayawukana kw'ekyo, wabula nga abamanyi abasinga obungi bali ku kigambo ekigamba nti amazzi ago gasigala gakyaali matukuvu era omuntu omulala asobola okweetukuza nago, ekyo ky'ekigambo ky'aba **مَالِكِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno], ky'ekigambo ky'aba **ظَاهِرِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno], ky'ekigambo ky'aba **شَافِعِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Shafi' ku nsonga eno], era ky'ekigambo ky'aba salaf abayitirivu;

- ❖ Omuli **إِمَامُ بْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ**
- ❖ Omuli **سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ**
- ❖ Omuli **أَبُو ثَوْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**
- ❖ Era ky'ekigambo kya **زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** mu ba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno],
- ❖ Ky'ekigambo kya **أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوَزِيِّ** n'omuyizi we **شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ**
- ❖ Ky'ekigambo kya **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ** mu bamanyi b'omulembe guno **عُثْمِينُ**

Bonna bagamba nti amazzi ago omusajja g'anaabyeeko janaba negafikkawo mu kyombo gasigala mazzi matukuvu era omuntu omulala akkirizibvwa okuba ntinno yeetukuza nago nga beseembesa hadith ya **أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ** bweppo ne hadith ya **أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ**, **"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ"**.

Era nebagamba nti hadith zonna ezigaana omuntu okweyambisa amazzi omusajja g'anaabyeemu janaba negafikkawo hadith zonna ziri **((مُضْطَرَبٌ))**, zikoonagana era ssi ntuufu, hadith entuufu z'ezikkiriza omuntu okuba ntinno yeyaambisa amazzi ago, hadith ezo tujja kuba nga tuzoogerako Insha Allah mu maaso awo, mu mulyango guno gwennyini hadith ezo mweeziri, era wetunaazituukako tujja kuba tuzoogerako **بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Tudde ku mukyaala!, Omukyaala amazzi geyeyawulidde nago n'aganaabisa janaba oba n'aganaabisa **حَيْضُ** [omusaayi omukyaala gw'afuna nga agenze mu nsonga ze] oba **نِفَاسُ** [omusaayi oguva mu mukyaala oluvannyuma lwa yye okuzaala] newabaawo agafisse mu kyombo ky'abadde anaabiramu, amazzi ago galamulya gatya?, gasigala mazzi matukuvu

oba gaba gakyaaufuwadde?, ye abaffe wegaba nga gasigadde matukuvu omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago?.

Okwaanukula nti: abamanyi abasinga obungi bali ku kigambo ekigamba nti amazzi ago gasigala matukuvu era omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago olwa hadith eyo eya **أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ** ne hadith ya **أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ** ne Ayah ziri ebbiri nga bwetwaalabye, okujjako abamanyi ab'olubatu nga ba **حَنَابِلَةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] bbo bagamba nti amazzi ago gabeera gakyaaufuwadde olwensonga nti janaba bbo bayina enzikiriza egamba nti ebeera evudde ku muntu ate nedda mu mazzi!, janaba ebeera evudde ku muntu ono ajinaaba ate nedda mu mazzi g'abadde anaabisa, bbo yenzikiriza yaabwe ba **حَنَابِلَةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], naye ekigambo ekyo ssi kituufu era ssi bujulizi!, obujulizi obutuufu bulaga nti amazzi ago gasigala matukuvu.

Mpozi nebeesembesa ne hadith eya **"رَجُلٌ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ"**

Omusajja eyawangaala n'Omubaka **عَلَيْهِ السَّلَامُ** emyaaka e'na[4], **أَرْبَعٌ سِنِينَ**, nga **أَبُو هُرَيْرَةَ** bweyajiwangaala n'Omubaka **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

Omusajja oyo eyagamba atasobola kutegeerekekwa, eyagamba nti Omubaka **عَلَيْهِ السَّلَامُ**;

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

Omubaka **عَلَيْهِ السَّلَامُ** yaziyiza omusajja okuba ntinno yeetukuza,

"بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ"

Omusajja okuba nti yeetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, n'omukyaala okweetukuza n'amazzi g'omusajja geyetukuzisizzaako negafikkawo.

Nabbi yaziyiza omusajja okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, ate era n'aziyiza n'omukyaala okweetukuza n'amazzi omusajja g'alesseewo

oluvannyuma lw'okweetukuza, wabula hadith eyo tujja kuba tujoogerako **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** mu maaso awo **بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**.

A (مَسْأَلَةٌ) NDOWOOZA AGENDA OKUSEMBAYO MU MULYANGO OGWO.

Abaffe singa amazzi gaba nga matono mu bungi, negaba nga mazzi matono, amazzi ago **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'egagwaamu, **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'egwa mu mazzi ago, amazzi ago negatakyuusa langi, mpunya na mpooma, tukkirizibwa okweetukuza nago?.

Okwaanukula nti: yye!, amazzi gonna agaguddemu e **نَجَسٌ**[Obukyaafu], agaguddemu obukyaafu, obukyaafu obwo nebutasobola kukuusa langi, mpunya yadde empooma y'amazzi ago nga tetutunuulidde bungi bwaago yadde obutono bwaago, gasigala mazzi matukuvu.

Ekyo nno ekigambo abamanyi bakyaawukanamu, abamanyi abamu bagamba nti bwegaba nga mazzi matono e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'egagwaamu gabeera gakyaaafuwadde, ekyo nno ky'ekigambo ky'aba **حَنْفِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno], era ky'ekigambo ky'aba **حَنْبَلَةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], n'abamu ku ba **شَافِعِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi' ku nsonga eno], bagamba nti amazzi bwegaba nga matono e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'egagwaamu, nebwegabeera tegakyuusizza langi, empunya yadde empooma, amazzi ago gabeera gakyaaafuwadde, wabula bwegaba nga amazzi mangi negagwiibwaamu e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'etakyuusa kitendo kyonna ku bitendo by'amazzi ago, ago amazzi gasigala matukuvu, amangi, gasigala matukuvu.

Kyokka ate n'abo abamanyi abali ku kigambo ekyo nebaawukana mu mazzi amangi geegaliwa n'amazzi amatono, b'ayawukana abamanyi abali ku kigambo ekyo, amazzi amangi geegaliwa?, agasobola okugwiibwaamu e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] negasigala nga gakyaaali matukuvu kasita eba nga e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] tekyuusizza kitendo mu bitendo by'amazzi, geegaliwa ago amazzi amangi?, era amazzi agabalibwa okuba nti matono geegaliwa?.

Aba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno] bbo bagamba nti amazzi agabalibwa nti mangi geemazzi agali mu kyombo nga ekyombo ekyo bwetunyeenya oludda lwaakyo olumu, oludda olulala terweenyenya, nga bw'onaaba ne ppiya n'ojinyeenya, amazzi waggulu negenyeenya kyokka wansi negateenyenya, bbo ba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno] bagamba nti ago geemazzi amangi, wabula singa amazzi gaba mu kyombo nga bwetukinyeenya gonna amazzi agali mu kyombo ekyo geenyeenya, ago amazzi gabeera matono..


Kaakati ba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno] bbo bagamba nti amazzi amangi nga bwebagannyonnyodde bw'owulidde, e **نَجَسُ** [Obukyaafu] bwegagwaamu neetakyuusa kitendo kyonna mu bitendo by'amazzi ago, ago amazzi gasigala gakyaali matukuvu era okkirizibwa okweetukuza nago, n'omuntu omulala akkirizibwa okweetukuza nago, wabula singa amazzi gaba nga matono, geegaliwa?, nga bwegabeera mu kyombo netukinyeenya amazzi gonna agali mu kyombo ekyo gagenda kwenyeenya, ago amazzi e **نَجَسُ** [Obukyaafu] n'egagwaamu, nebwegaba tegakyuusizza kitendo kyonna mu bitendo byaago gabeera gakyaafuwadde, abo beeba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno], طَيِّبٌ.

Ba **شَافِعِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno] neba **حَنْبَلِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] bbo bagamba nti amazzi amangi agabalibwa okuba nti mangi tugapimira mu ((قَلْبُهُ)), gayina okuba nga gaweza ((قَلْبُهُ)) bbiri, era wano wenyini webagenda okutusomerera hadith eddako, **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**.

الحديث الرابع

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَجْعَلِ الْخَبِيثَ))،
وَفِي لَفْظٍ ((لَمْ يَجْعَسْ)) أَخْرَجَهُ التَّيْمِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

Ekifaananyi kya ((قَلَّةٌ)) y'abawarabu kyeekino wammanga.



**Note: Liita z'amazzi ezigenda mu ((قَلَّةٌ)) ebbiri, zibeera liita 230 mu mbeera
y'okugerageranya.**

_Mmwe wanno ewammwe mubeera na nsuwa n'ebirala ebifaanana bweebityo, naye bbo eri abawarabu bayina ((قَلَّةٌ)), kyombo kibera bweekityo, baakiterekaangamu amazzi, oluusi abaana nga baseneramu amazzi okuva ku luzzi n'ebirala ebifaanana bweebityo, ate n'okukifuumbiramu, eyo ((قَلَّةٌ)) bweetyo bwebeera efaanana.

Kati Omubaka ﷺ yakozesa ekintu bali kyebaali bamanyi, era kyebaali bategeera obulungi, n'abagamba nti amazzi bwegaba nga gaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, amakulu netukwaata ((قَلَّةٌ)) netugattako ((قَلَّةٌ)) endala, amazzi agagenda mu ((قَلَّةٌ)) eno netugayiwa mu kyombo, netufuna n'amazzi agagenda mu ((قَلَّةٌ)) endala netugayiwa mu kyombo, ekyombo nekiba nga kirimu amazzi ga ((قَلَّةٌ)) bbiri, ago amazzi "لَمْ يَجْعَلِ الْخَبِيثَ".

_Kati eyo ye ((قَلَّةٌ)) emu bweetyo bweeba efaanana, naye ebaako n'omukonda eno ebbali, ((قَلَّةٌ)) emu bweetyo bweeba efaanana, simanyi oba wano ewammwe mu buganda mubiyinawo, naye ((قَلَّةٌ)) emu eba efaanana bweetyo, kati funayo ((قَلَّةٌ)) endala amazzi gabeere nga gali mu kyombo ekyo then ofuneyo n'amalala nga gali mu kyombo ky'ekimu ekyo, gombi gayiwe mu kyombo ekirala, oba muntegedde?!, funa amazzi ga ((قَلَّةٌ)) emu, gayiwe mu kyombo, teekamu amazzi amalala mu ((قَلَّةٌ)) yeemu eyo, gayiwe mu kyombo nga bw'olaba eno bw'ojiraba eno bw'efaanana wano, then kati ago amazzi g'okungaannyizza mu kyombo ekyo getuyita amazzi agajja mu ((قَلَّةٌ)) ebbiri, geemazzi Nabbi geyayogerako n'agamba nti: "لَمْ يَجْعَلِ الْخَبِيثَ".

Eyo ye ((قَلَّةٌ)) bweetyo bw'eba efaanana, omuntu aba asobola okujeetikka bwaati n'emikonoje ku side eno ne side_, kaakati abo beeba شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafic ku nsonga eno] neba حَنَابِلَةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], bbo bagamba nti olwa hadith eyo amazzi gonna agaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu, ago amazzi obukyaafu nebugagendamu, nebutakyuusa kitendo kyonna mu bitendo bya mazzi agali mu kyombo ekyo ekirimu amazzi agaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, ago amazzi gasigala matukuvu era nga gasobola n'okutukuza ekintu ekirala, wabula amazzi singa gabeera mu kyombo nga obungi bwaago tebuweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, nga matono, tegaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, ago amazzi bwegagendamu e Obukyaafu [Obukyaafu] neweeba tekyuusizza kitendo mu bitendo by'amazzi ago gabeera gakyaafuwadde, abo b'eba شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafic ku nsonga eno] neba حَنَابِلَةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno].

Ba حَنَفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno] bbo b'agambye batya?, gayina okuba nga bwetunyeenya طَرَفٌ [side] emu,

"لَمْ يَتَّخِذْ مَاءَ الطَّرَفِ الْآخَرَ"

Nga amazzi ga side endala tegagenda kwenyeenya, bwetunyeenya side emu amazzi ga side endala tegagenda kwenyeenya_, abo beeba حَنَفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah ku nsonga eno], wabula bwegaba nga bwegabeera mu kyombo netukinyeenya nga amazzi gonna agali

mu kyombo gagenda kwenyeenya ago amazzi gabalibwa okuba nti matono, e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] bw'egagwaamu nebweeba tekyuusizza kitendo mu bitendo byaago eri ba **حَنْفِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Haniifah kunsonga eno] gabeera gakyaaafuwadde.

Kati wasigaddeyo ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno], ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bbo bagamba nti amazzi mangi oba matono, gaweza **((قَلَّةٌ))** bbiri oba tegaziweza, bwegabeera mu kyombo netukinyeenya genyeenya side emu endala netenyeenya, oba genyeenya gonna, **ebyo ssi bikulu!**, ekikulu kukyuuka kwa kitendo mu bitendo by'amazzi oluvannyuma lwe **نَجَسٌ**[Obukyaafu] okugagwaamu, ekyo ky'ekikulu, ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bbo webagamba.

Amazzi gano gakyuusizza empunya?, nti yye!, empunya eyo ekyuuse lwa **نَجَسٌ**[Obukyaafu] yagaguddemu?, nti yye!, ago amazzi gakyaaafuwadde!.

Gakyuusizza empooma?, nti yye!, olwe **نَجَسٌ**[Obukyaafu] eyagaguddemu?, nti yye!, gakyaaafuwadde!, ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno]"

Mangi oba matono?, ekyo ssi kikulu, gaweza **((قَلَّةٌ))** bbiri oba nedda?, ekyo ssi kikulu!, ekikulu kukyuuka kwa kitendo mu bitendo by'amazzi!.

Nti e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] egaguddemu?, iyye!, ekyuusizza ekitendo mu bitendo byaago?, nti nedda, ago amazzi gakyaali matukuvu, newankubadde nga tegaweza **((قَلَّةٌ))** bbiri, era omuntu akkirizbwa okweetukuza nago!.

e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] egaguddemu?, nti yye!, ekyuusizza ekitendo mu bitendo byaago?, nti yye!, gabadde gasukka mu **((قَلَّةٌ))** bbiri?, nti yye!, nti "eee", kati bwekiba bweekityo gakyaaafuwadde newankubadde nga gasukka mu **((قَلَّةٌ))** ebbiri, naye gakyaaafuwadde olwensonga nti e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] egaguddemu n'ekyuusa ekitendo mu bitendo byaago!, beeba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] .

Era abanmanyi abasinga obungi ekigambo ky'aba **مَالِكِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] kyebeegattako, kyebaagenda nakyö;

- ❖ Ky'ekigambo kya **أَبْنُ الْقَيْمِ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ** n'omuyizi we **شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو تَيْمِيَّةَ**
- ❖ Era ky'ekigambo kya **أَبْنُ بَازٍ** mu bamanyi b'omulembe guno, ky'ekigambo kya **أَبْنُ عَثِيمِينَ** mu bamanyi b'omulembe guno
- ❖ Mu mirembe jiri ejaaba **التَّابِعِينَ** neba **الصَّحَابَةَ** twaboogerako dda, netugamba nti ky'ekigambo kya Maama waffe **عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**
- ❖ Ky'ekigambo kya **عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**
- ❖ Ky'ekigambo kya swahaaba ayitibwa **أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**
- ❖ Ky'ekigambo kya swahaaba ayitibwa **أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**
- ❖ Ky'ekigambo kya **حَدِيفَةُ بْنُ الْيَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**
- ❖ Ky'ekigambo kya maama waffe **بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** neba swahaaba abalala bayitirivu
- ❖ Era kye'kigambo kya **حَسَنُ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ**
- ❖ Ky'ekigambo kya **سُفْيَانُ بْنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**
- ❖ Ky'ekigambo kya **عَطَا بْنُ أَبِي رَبَاحَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**

N'abamanyi abalala **مِنَ التَّابِعِينَ**, bonna abo ekyo ky'ekigambo kyaabwe, ekikulu mazzi kukuusa kitendo mu bitendo byaago, obungi bw'amazzi ssi kikulu oba obutono bwaago, **طَيِّبٌ**.

Era ekigambo ekyo ekisembyeeyo eky'aba **مَالِكِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] nange ky'ekigambo kyange, ekikulu mazzi gano kuba nti gakyaali ku langi yaago, mpunya yaago, na mpooma yaago, e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] neweeba nga egaguddemu gasigala gakyaali mazzi matukuvu era omuntu akkirizibwa okweetukuza nago kasita gaba nga gakyaali kweekyo **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** kyeyagatonderako, wabula newegaba nga gasukka mu **((قَلْبُهُ))** ebbiri e **نَجَسٌ**[Obukyaafu] n'egagwaamu negakyausa ekimu ku bitendo byaago olwe **نَجَسٌ**[Obukyaafu]

eyo egaguddemu ago amazzi gaba gakyaaafuwadde, bwetuba nga tusobola okugayonja tukikola, bwetuba nga tetusobola kugayonja tugayiwa_.

Kiri mukadde waffe ky'abuuzizza ekya **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ziri ebbiri, **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] emu egamba nti: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْبَيْنِ", amazzi bwegaba nga gaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, amakulu nti nga gali mu ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu, ago amazzi "لَمْ يَجْعَلِ الْخَبِيثَ", tegasobola kukosebwa bukyaaafu, kasita gaba nga gali mu ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu, amakulu obukyaafu bugenze okugasanga nga gali mu ((قَلَّةٌ)) bbiri, ago amazzi gasigala mayonjo era agasobola n'okutukuza ekintu ekirala, طَبِّبَ.

Kyokka ate **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eno egamba nti: "إِذَا بَلَغَ", yyo etegeeza nti amazzi tegaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, obukyaafu bugaguddemu, obukyaafu bwebugaguddemu negakyuusa ekitendo mu bitendo byaago oba kale negatakyuusa, **المهم** [ekikulu] nti obukyaafu bugaguddemu, netufunayo amazzi amalala nga mangi bulungi gaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, amazzi ago netugayiwa mu kyombo ekirimu gano amazzi amatono agagenzeemu e **نَجَسٌ** [Obukyaafu] negaba nga kati gawezezza ((قَلَّةٌ)) bbiri, ye **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eyo egamba nti: "إِذَا بَلَغَ", kasita amazzi gaweza, amakulu gabadde tegaziweza, naye kasita tugasseemu amazzi amalala negaziweza, olwo kaakati gano newankubadde nga obukyaafu bwagaguddemu nga gakyaali matono naye kaakati ate kweyongeddeko amazzi amalala negaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, gaba tegakyaasobola kukosebwa bukyaaafu.

Kansuubire **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ezo bbiri muzaawudde?!;

- "إِذَا كَانَ": obukyaafu bw'agenze okugasanga nga already gali mu ((قَلَّةٌ)) bbiri.
- "إِذَا بَلَغَ": obukyaafu bw'agenze okugasanga nga tegaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, tugasseeko bugassi mazzi malala okuweza ((قَلَّةٌ)) ebbiri_.

A ((مَسْأَلَةٌ)) agasembayo sseeka alyooke atusomere mu **أَلْفِيَّة** ya **إِمَامُ وَلِيدِ بْنِ رَاشِدِ السَّعِيدَانِ** **حَفِظَهُ اللهُ**.

Singa omuntu afuna okubusabuusa mu mazzi, amazzi gano mayonjo oba makyaafu?, akola atya?.

Okwaanukula nti azimbira ku kikolo, **ki kyentegeeza?**, amazzi gali mu kyombo kino g'abadde matukuvu naye n'abusabuusa, amazzi gano gakyaali matukuvu nga bwennagalesse oba gaakyaafuwadde?, amazzi gano gakyaali matukuvu oba kati gaakyaafuwadde?!, kiba kitegeeza nti omuntu ono ali mu kubusabuusa mu kuba nti e **نَجَسُ [Obukyaafu]** yagudde mu mazzi gano oba nedda, **ekyo kimu.**

Ekyookubiri, amazzi g'abadde mayonjo n'abeera mukakafu ddala nti e **نَجَسُ [Obukyaafu]** yagaguddemu naye naaba nga tannaba kukakasa e **نَجَسُ [Obukyaafu]** eno weyagaguddemu olwo gaakyaafuwadde?!, biri bibiri **byanjawulo**, ekisoose amazzi gaabadde matukuvu wabula oluvannyuma n'abusabuusa amazzi gano e **نَجَسُ [Obukyaafu]** yagaguddemu negakyaafuwala oba e **نَجَسُ [Obukyaafu]** teyagaguddemu, ekyo kimu, ekyookubiri amazzi g'abadde mayonjo e **نَجَسُ [Obukyaafu]** n'ajirabako n'amaaso ge abiri nga egwaamu mu mazzi naye n'abusabuusa e **نَجَسُ [Obukyaafu]** eno bw'egudde mu mazzi egakyaafuwazza oba tegakyaafuwazza?, **mubyaawudde ebyo ebifaananyi ebibiri?!**

- ❖ Ekifaananyi ekyaasoose abusabuusa mu **نَجَسُ [Obukyaafu]** kugwa mu mazzi, takakasa oba e **نَجَسُ [Obukyaafu]** amazzi yagaguddemu.
- ❖ Ekifaananyi ekyookubiri abusabuusa mu kuba nti e **نَجَسُ [Obukyaafu]** eno yakyaafuwazizza amazzi?, eky'okuba nti yagaguddemu kyo akikakasa, naye bweyagagudeemu yakyaafuwazizza amazzi?!

Mu mbeera eyo azimbira ku kikolo eky'okuba nti amazzi gano gakyaali matukuvu kubanga tegakyaafuwazizza langi, tegakyaafuwazizza mpunya, tegakyaafuwazizza mpooma, newankubadde nga e **نَجَسُ [Obukyaafu] ajirabyeeko nga egwaamu, tegakyaafuwazizza kitendo mu bitendo byaago, ago gakyaali mazzi matukuvu era okkirizibwa okweetukuza nago.**

Ate kiri ekifaananyi ekyaasoose_,

"الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"

Ekintu ekikakasibwa tekisbola kujjibwaawo ate kibuusibwa buusibwa

Ekikakasibwa ky'ekiriwa?, amazzi gano okakasa nti gaabadde matukuvu, ekyo okikakasa, kiriwa ky'obuusabuusa?, e نَجَسٌ [Obukyaafu] yagaguddemu oba nedda!, kati tetusobola kujjawo kintu kikakasibwa nga tukijjawo ate n'ekibuusibwa buusibwa, tuyina kuzimbira ku kikolo nti gano amazzi gakyaali matukuvu teri نَجَسٌ [Obukyaafu] y'agaguddemu, kubanga singa ebadde yagaguddemu yandibadde either ekyuusizza e'langi, empunya oba empooma, obujulizi ku nsonga eyo bweebuliwa?,

❖ "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ"

❖ Ne hadith ya أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: "إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ", oba "إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ وَلَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ"

Wabula ate singa amazzi gano obeera w'ekakasa bulungi nnyo nti e نَجَسٌ [Obukyaafu] yagaguddemu, e نَجَسٌ [Obukyaafu] eyo bweyagudde mu mazzi, n'egakyaafuwaza, langi yakyuuse, oba empunya oba empooma, amazzi g'akyaafuwadde oluvannyuma lwe نَجَسٌ [Obukyaafu] okugagwaamu, oluvannyuma n'ofuna okubuusabuusibwa amazzi gano g'atukudde oluvannyuma lwe نَجَسٌ [Obukyaafu] okugagwaamu oba gakyaali makyaafu?.

Tukugamba nti zimbira ku kikolo, amazzi ago gakyaali makyaafu, amazzi ago gakyaali makyaafu ppaka nga omaze okukikakasa nti kati g'atukudde, either waliwo amazzi amalala agaayongeddwaamu oba enkuba yazze n'etonnya mu mazzi ago okukkakkana nga egayonjezza n'egajjamu buli obukyaafu, oba kibuyaga y'eyakulukusizza obukyaafu amazzi negadda mu nteeko, oba okuba ntinno wayongeddemu amalala oba obukyaafu bwaavuddemu, kibuyaga yabujjeemu oba ggwe wabujjeemu oba omuntu omulala yenna oba okuba nti Allah yatonyesezza enkuba, enkuba

n'eba nga yatukuzza amazzi ago, oba okuba nti b'agataddemu chemicals zino ezennaku zino zebagatta mu mazzi, amazzi negatukula.

المهم [ekikulu] singa obeera tonnakakasa nti amazzi gano g'atukudde, ago amazzi tugalekayo ku kikolo kyaago eky'okuba nti gakyaali makyaafu ppaka nga omaze okukkasa nti kati gaatukudde, gatukula gatyaa?, twaakiraba dda, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ, tewali bweetaavu bwa kukiddamu...

Kaakati abamanyi bayina engatta jebagattamu hadith eyo naziri ezikulembedde engatta ezenjawulo.

ENGATTA ESOOKA

Abamanyi abamu bagamba nti hadith ya ابن عمر nga eri مرفوع [etuuka] ku Nabbi hadith nnaful, kasita eba nga etuuka ku Nabbi, nga swahaaba agamba nti ebyo bigambo bya Nabbi, ebeera nnaful, nebagamba nti ate bweeba nga hadith eyo balaze nti ekoma ku ابن عمر, amakulu nti ebyo byaali bigambo bya ابن عمر ssi bya Nabbi, eyo رواية [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] yyo ntuufu.

Nkikuddiramu obitegere bulungi, abamanyi abamu bagamba ntinno bw'osanga hadith egamba nti;

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَجْعَلِ انْجَبَتْ

Amazzi wegaba nga gali mu ((قلّة)) bbiri n'okudda waggulu tegasobola kukosebwa bukyaafu, nga balaze nti ebyo bigambo bya Nabbi, Nabbi y'eyabyoogera!, eyo hadith رواية [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ebeera nnaful, wabula رواية [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] entuufu ebyo ebigambo ssi bigambo bya Nabbi wabula bigambo bya ابن عمر nga swahaaba.

Era mu mbeera efaanaganako bw'etyo bagamba ntinno: "إِذَا تَعَارَضَ الْمَوْقُوفُ الْمَرْفُوعُ"

Ebigambo bya swahaaba singa bikoontana n'ebigambo bya Nabbi, singa ebigambo bya swahaaba bikoontana, nebikontana n'ebigambo bya Nabbi,

تَقْدِمُ الْمَرْفُوعُ

Tukulembeza bigambo bya Nabbi, hadith singa ejja nga eraga nti bino ebigambo ssi bya Nabbi, bya swahaaba gundi y'eyabyoogera, ate endala nejja nga eraga nti bino bigambo bya Nabbi y'eyabyoogera mwennyini mweenye, tuyina kukulembeza bigambo bya Nabbi ku bigambo bya swahaaba kasita bijja nga bino bikuubagana n'ebya Nabbi, tukulembeza bya Nabbi netulekawo ebya swahaaba.

Kati bbo bano ate bagamba nti hadith entuufu, **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] entuufu ebyo ssi bigambo bya Nabbi wabula bigambo bya swahaaba **ابن عمر**, ate tetusobola kusoosowaza bigambo bya swahaaba ku bigambo bya Nabbi, eyo engatta weeri, **طيب**.

ENGATTA NAMBA BBIRI

Abamanyi abamu bagamba ntinno hadith ya **ابن عمر**

❖ **((مفهوم))**: ekijirimu kitegeerwa butegeerwa.

Kyokka nga ate hadith ya **أبو سعيد الخدري** ne hadith ya **أبو أمامة الباهلي**

❖ **((منطوق))**: bigambo ebyoogeddwa okuviira ddala mu kamwa ka Nabbi.

Biri bwetukkiriza nti ddala hadith eri **مرْفُوع** [etuuka] ku Nabbi ntuufu!, hadith ya **ابن عمر** nga tukkirizza nti etuuka ku Nabbi, bigambo bya Nabbi, kiri kitegeereddwaamu butegeerwa!, **ekigamba kitya?**, nti amazzi bwegaba nga tegaweza **((قَلْب))** bbiri gasobola okukosebwa obukyaafu, ekyo bano abamanyi bategeddemu kitegeere, ssi kigambo Nabbi kyeyayogera n'olulimi lwe, ekigambo kyeyayogera n'olulimi lwe direct[butereevu] kigamba nti: **"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"**.

Kati kiri kiri **((مفهوم))**, bano abamanyi bebakitegedde mu bigambo bya Nabbi, ate kino nekibera **((منطوق))**.

"نَقْدِمُ الْمَنْطُوقَ عَلَى الْمَفْهُومِ"

Tuyina kukulembeza kino ekigambo Nabbi ky'ayogedde okuva mu kamwaake ku kiri ekitegeereddwaamu obutegeerwa mu bigambo bye_.

Eyo engatta namba bbiri, engatta eyasoose;

- ❖ Bino ebigambo ssi bya Nabbi, bino bigambo bya **إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ...**, ssi bya Nabbi, ebyo bigambo bya swahaaba **ابن عمر**.

Ebya Nabbi bigamba bitya?, **إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُجَسَّهُ شَيْءٌ**, tetusobola kukulembeza bigambo bya swahaaba ku bigambo bya Nabbi!, kasita bikoona gana tuyina kukulembeza bya Nabbi kubya swahaaba, **طَيِّب**.

- ❖ Engatta namba bbiri tukkirizza nti bino, **إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ...**, bigambo bya Nabbi, tumaze okukikiriza nti ebyo bigambo bya Nabbi, agambye nti amazzi gonna agali mu **((قَلَّةٌ))** bbiri n'okudda waggulu tegasobola kukosebwa bukyaafu, bbo bano abamanyi nga abamanyi, bbo mu bigambo bya Nabbi ebyo nebategeeramu ekigamba, **amakulu nti wegaba nga tegaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri gasobola okukosebwa obukyaafu**, ekyo bategeddemu kitegeere, ssi Nabbi y'akyoogetde bwaaty, wabula bano beebakijje mu bigambo bye, ekyo kyebategedde mu bigambo bye, kyokka ate newajjaye ekigambo ekirala nga kivudde mu kamwa direct[butereevu] ka Nabbi nga kkyo kigamba nti:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُجَسَّهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ

Kati tugamba nti tuyina ku kulembeza kigambo kya Nabbi ku ntegeera abamanyi jebajje mu bigambo bye, tosobola kukulembeza ntegeera ate ku bigambo ebyaatuddwa nga biri direct[butereevu], biri clear bulungi, **"تَقْدِمُ الْمَنْطُوقَ عَلَى الْمَفْهُومِ"**, ekyo nakyo kitegerekesse bulungi.

ENGATTA ESEMBAYO

Okusenziira ku kumanya kwange **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**, abamanyi jebagattamu hadith ezo ebbiri, bagamba hadith eno eya **أَبْنُ عُمَرَ**, hadith ya **أَبْنُ عُمَرَ** teyina w'etugaanira n'akatono era teyina w'ekitugambira n'akatono nti amazzi bwegaba nga matono tegaweza **(قَلَّةٌ)** bbiri gasobola okukosebwa obukyaafu, wabula Omubaka **مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yayagala ku tutegeeza nti amazzi gonna amangi nga ekigero ky'atandikiddeko kya **(قَلَّةٌ)** bbiri, amazzi gonna amangi tegasobola kukosebwa bukyaafu okujjako nga obukyaafu obwo bukuyusizza e'langi, empunya n'empooma, **wabula ekyo kiri "نَادِرٌ جَدًّا"**, amazzi amangi agali mu **(قَلَّةٌ)** bbiri n'okudda waggulu okukosebwa obukyaafu, kiri **"نَادِرٌ"**, kiri very rare, tekisangika sangika amazzi amangi okukosebwa obukyaafu, ekyo Nabbi kyeyali ategeeza, wabula nga tali mu kututegeeza nti amatono bwegagendamu obukyaafu newegaba tegakuyusizza kitendo mu bitendo byaago nti olwo gaba gakyaafuwadde, nedda!, ssi kyeyali ayagala okututegeeza, wabula yakolera ku mbeera ya **"أَغْلَبِيَّةٌ"**, nti amazzi gali amanji ekiri **"أَغْلَبٌ"** ku ggo, tegakosebwa bukyaafu, kyeekiri **"أَغْلَبٌ"**, kiri kiri rare[tekisangika sangika], okuba nti obukyaafu bugudde mu mazzi amangi negakyaafuwala, wabula ate gano amazzi amatono ekiri **"أَغْلَبٌ"** ku ggo nti obukyaafu webugagwaamu gakyuuka ekimu ku bitendo byaago_, ekiri usual oba common[ekya bulijjo] ku mazzi amangi nti bwegagwaamu obukyaafu tegakuyuuka ate ekiri usual oba common ku mazzi amatono nti obukyaafu webugagendamu gakyuuka.

Eyo yentegeera namba ssatu jetuyinza okuba nti tutegeeramu obujulizi buno nabuli nga tubugasse_.

- ❖ Entegeera eyasoose hadith eno tetuuka ku Nabbi, bigambo bya swahaaba, tetusobola kukulembeza bigambo bya swahaaba ku bya Nabbi nga bikoona ganye.
- ❖ Entegeera namba bbiri tukkirizza nti eno hadith bigambo bya swahaaba naye kiri bano abamanyi bebakitegeddemu, tetusobola kukulembeza kitegeereddwa mu bigambo bya Nabbi ku kiri ate ekyaatuddwa obulungi.

- ❖ Entegeera namba ssatu tweyaambisizza "أغلبية", kiki ekiri common!, Nabbi yayogera hadith ya ابنُ عمرٍ nga asinziira kweekyo ekiri common, nti ekiri common amazzi amangi butakosebwa bukyaaafu, ate ekiri common ku mazzi amatono kukosebwa bukyaaafu_.

الْفَيْتَةُ الْفُقَهَاءُ

تأليف فضيلة الشيخ
وليد بن راشد السعيدان
- حفظه الله -

كِتَابُ الطَّهَارَةِ (٤) بَابُ الْمِيَاهِ (٥)

٧	اعْلَمْ بِأَنَّ الْمَاءَ فِي تَشْرِيْعِنَا	مِنْ غَيْرِ شَكٍّ يَا فَتَى قِسْمَانِ
٨	مَاءٌ طَهُورٌ طَاهِرٌ وَمُطَهَّرٌ	أَوْصَافُهُ سَلِمَتْ مِنَ التَّقْصَانِ
٩	فَإِذَا تَعَيَّرَ وَصَفُهُ بِتَجَاسَةٍ	فَاحْكُمْ عَلَيْهِ بِهَا وَهَذَا الثَّانِي
١٠	وَالْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ يَا فَتَى	إِلَّا بِنَصْرٍ وَاضِحٍ التَّبْيَانِ
١١	فَاحْكُمْ بِهَذَا الْأَصْلِ دُونَ تَرَدُّدٍ	فَعَلَيْهِ دَلَّتْ شِرْعَةُ الرَّحْمَنِ
١٢	وَالْمَاءُ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ	مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ مُذْهِبِ الْأَذْهَانِ

١٢ وَالْمَاءُ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ مُذْهِبِ الْأَذْهَانِ

Awo wetunnyonnyodde naye tujja kunnyonnyolawo insha Allah mu maaso eyo, omuntu nga azuukuse okuva mu tulo, bwazuukuse okuva mu tulo nannyika engalo ze mu mazzi gagenda okufunisa e'wuzu nga engalo ezo tasoose kuzinaabako bbali mirundi esatu nga Nabbi bweyagamba, amazzi ago eri ba حَابِلَةٌ [Abagobertera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno]

gabeera gakyaaufuwadde!, amazzi ago omuntu azuukuse okuva mu tulo okw'ekiro, nannyika engalo ze butereevu mu mazzi gagenda okufunisa e'wuzu nga tasoose kuzinaabako bbali mirundi esatu nga Nabbi bweyagamba, eri ba حَنْبَلَةٌ [Abagobertera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] ago amazzi gaba gakyaaufuwadde on spot[mbagirawo], wabula eri abamanyi abasigadde ago amazzi gabeera gakyaali amazzi amatukuvu era nga ky'ekigambo ekituufu mu ((مَسْأَلَةٌ)) nga bwetujja okulaba bwetunaaba nga tutuuse ku hadith eyogera kw'ekyo, hadith nga Omubaka أَبُو هُرَيْرَةَ, hadith ya هُرَيْرَةَ, hadith ya هُرَيْرَةَ agamba nti;

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَالْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا فِي وَضُوئِهِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"

Bwetunaaba nga tutuuse ku hadith eyo tujja kuba twongera okukkaatiriza ensonga eyo.

۱۲ وَالْمَاءُ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ مُنْذِبِ الْأَذْهَانِ
 ۱۳ مِنْ قَبْلِ غَسَلٍ، أَوْ خَلَّتْ بِقَلْبِهِ أَنْشَى لِيَطْهَرَ كَامِلِ الْأَرْكَانِ

۱۳ مِنْ قَبْلِ غَسَلٍ، أَوْ خَلَّتْ بِقَلْبِهِ أَنْشَى لِيَطْهَرَ كَامِلِ الْأَرْكَانِ

Twakyyogeddeko, omukyaala abadde anaaba جَنَابَةٌ [janaba] oba abadde anaaba حَيْضٌ [omusaayi oguva mu mukyaala buli mweezi] oba abadde anaaba نَفَاسٌ [omusaayi oguva mu mukyaala nga amaze okuzaala], bwaamaze okunaaba newabaawo amazzi agafisse mu kyombo ky'abadde anaabiramu.

Abamanyi abamu bagamba nga bwetwaalabye nti ago amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala ono okunaaba جَنَابَةٌ [janaba], حَيْضٌ [omusaayi oguva mu mukyaala buli mweezi] oba نَفَاسٌ [omusaayi oguva mu mukyaala nga amaze okuzaala], tokkirizibwa ggwe omusajja kweetukuza nago yadde omuntu omulala yenna, wabula ekigambo ekituufu twagambye nti amazzi ago gasigala mazzi matukuvu era omuntu omulala yenna akkirizibwa okweetukuza nago, hadith jeeziri mu maaso eyo tetunnaba kuzituukako wabula twabyogeddeko mu mbeera ya kwebbirira, bwetunaaba tutuuse ku hadith ezo tujja kuba twongera okunyonnyola ensonga eyo.

۱۲ وَالْمَاءِ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ مُنْذِهِبِ الْأَذْهَانَ
 ۱۳ مِنْ قَبْلِ غَسَلٍ، أَوْ خَلَّتْ بِقَلْبِهِ أَنْتَى لِيَطْهَرَ كَامِلِ الْأَرْكَانِ

۱۴ أَوْ كَانَ بَيْنَ مَقَابِرِ بَشَرٍ بِهَا مَاءٌ وَمَا بِالْوَصْفِ مِنْ نُكْرَانِ

Abamanyi abamu nga bwetujja okukiraba insha Allah era mu maaso bagamba nti_, tuyina kyetuyita;

"الْمَجَاوِرَةُ وَالْمُخَالَطَةُ", mu mazzi.

Amazzi singa galiraana e نَجَسٌ [obukyaafu], amazzi singa e نَجَسٌ [obukyaafu] egaliraana, olusu lwe نَجَسٌ [obukyaafu] eyo neluva ku نَجَسٌ [obukyaafu] eno eriraanye amazzi nerulumba amazzi ago amazzi gabeera gakyaaafuwadde, abamanyi abamu bweebaty bwebagamba, bakyooopera ku luzzi singa embwa efiira emabbali g'oluzzi, luno lwe luzzi مَثَلًا [kya kulabirako], luno lwe luzzi, kati singa embwa efiira wano ebbali w'oluzzi, teyeegasse mu mazzi, 'aaa' yyo eri bbali wano ew'oluzzi, wabula olusu luno nerutambula nerulumba amazzi agali mu luzzi luno, ago amazzi gabeera gakyaaafuwadde, abamanyi abamu weebaty webagamba.

Era beebamu beebagamba nti singa omuntu yeyaambisa e نَجَسٌ [obukyaafu] okufumba amazzi, omukka gwe نَجَسٌ [obukyaafu] eno j'afumbisa negugenda mu mazzi gali g'afumba, ago amazzi gabeera gakyaaafuwadde, tujja kuba tubalaba abamanyi abo بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, wabula ekigambo ekituufu tekiri nabo!, kubanga "الْمَجَاوِرَةُ", e نَجَسٌ [obukyaafu] eriraanye oba esemberedde amazzi teyina bw'ekosa mazzi, e نَجَسٌ [obukyaafu] eriraanye obuliraanyi amazzi teyina bw'ekosa mazzi n'akatono, era ky'ekimu amazzi singa gagendamu butto, oyo butto abeera akoze "الْمَجَاوِرَةُ", kubanga fenna tukimanyi butto teyeemikisinga [teyegatta] na mazzi, wabula yeeregama ku mazzi kungulu, ekyo tukiuyita "الْمَجَاوِرَةُ", teyeemikisinze, ssi "مُخَالَطَةُ", ago amazzi gasigala matukuvu era tukkirizibwa okweetukuza nago, ne نَجَسٌ [obukyaafu] ebadde ebbali w'amazzi, olusu weruba lugenze mu mazzi, amazzi ago gasigala matukuvu kubanga olusu luno terugenze mu mazzi lwa "مُخَالَطَةُ", nti e نَجَسٌ [obukyaafu] yeetabise mu mazzi, wabula lugenze mu mazzi lwa "مَجَاوِرَةُ".

Kati sseeka wano ky'ayogerako nti:

١٤ أَوْ كَانَ بَيْنَ مَقَابِرِ بَيْتِهَا مَاءٌ وَمَا بِالْوَصْفِ مِنْ نُكْرَانٍ

Singa oluzzi lubeera wakati w'entaana, eno ntaana neeno ntaana, n'eno ntaana n'eno ntaana, oluzzi ddwo luli wakati awo, okukkakkana nga oluzzi lutandise okufunamu ku lusu oluva mu mirambo jiri ejiri mu ntaana, ago amazzi abamanyi abamu b'agatamwa nebagamba nti tokkirizibwa kweetukuza nago, gabeera mazzi makyaafu, wabula ekigambo **ekyo ssi kituufu ago amazi gabeera matukuvu** kubanga e **نَجَسٌ [obukyaafu]** eri ekoze "مُجَاوِرَةٌ", eriraanye buliraanyi mazzi tekoze "مُخَالِطَةٌ", tey'emikisinze mu mazzi.

١٤ أَوْ كَانَ بَيْنَ مَقَابِرِ بَيْتِهَا مَاءٌ وَمَا بِالْوَصْفِ مِنْ نُكْرَانٍ
١٥ وَكَذَلِكَ مَا سَخَّنَتْهُ بِنَجَاسَةٍ وَكَذَا بِشَمْسٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ

١٥ وَكَذَلِكَ مَا سَخَّنَتْهُ بِنَجَاسَةٍ وَكَذَا بِشَمْسٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ

Geemazzi, tujja nakyu kukiraba, bingi byetutannaba kulaba, hadith zaabyo jeeziri mu maaso.

Amazzi omuntu gaayanisse mu musana, ayinza okuba nga obudde bw'abadde bwa mpewo omusana negujja, n'agamba nti kanteeke amazzi gano mu kasana gajira gabuguma oluvannyuma ate ndyooke nnaabe, oba okuba nti amazzi baagalesse awo nga ssi kigenderere mu musana, omusana negugookyaako, ba **شَافِعِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno]** bagamba nti amazzi ago gatamwa, kitamwa okuba ntinno weetukuza nago, ssi bonna wabula abamu nga bwetujja okulaba, bagamba nti amazzi ago kitamwa okuba ntinno weetukuza nago, nga **إِمَامُ الشَّافِعِيِّ** "نَاحِيَةُ الطَّبِيبَةِ" mu luuyi lwa **رَحِمَهُ اللَّهُ** bweyagamba mu kitabo kye "الأُمُّ", yye nga akyeesigamizza mu "نَاحِيَةُ الطَّبِيبَةِ" mu luuyi lwa byaabusawo, kubanga bagamba nti amazzi ago;

"يُورَثُ الْبَرِّصُ"

Gakoozinga obulwadde obw'olususu nga bwebeesembesa hadith ya **عمر بن الخطاب رضي الله**
تبارك وتعالى عنه.

Wabula hadith eyo ekisooka kwanza kwanza hadith nnafu, eyo hadith jebeesembesa eya
عمر بن الخطاب

Nti: **"الماء المشمس يورث البرص"**

Amazzi agookeddwaako omusana galwaaza obulwadde bw'olukuku n'endwaade ezisigadde
ez'olususu.

Ekyo ekigambo ssi kituufu!, abantu bennyini aboogera ekyo nti amazzi agaanikiddwaako mu
musana tokkirizibwa kweetukuza nago ate bebakkiriza amazzi genyanja okweetukuza nago, kyokka
nga ate fenna tukimanyi bulungi nti enyanja teri n'omu asobola kujibikka kuva eri musana, amazzi
genyanja gabeera open **eri omusana**, **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**, naye ate ggo bakkirirza omuntu **okweetukuza**
nago nebagaana amazzi omuntu g'atadde mu bbaafu n'agateka mu musana, ekyo ekigambo
ssi kituufu, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ.

Ebyo byonna obujulizi bwaabwo ye hadith egamba nti: **"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَجْسَهُ شَيْءٌ..."**, ne hadith
ya **أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ**.

١٥ **وَكَذَلِكَ مَا سَخَّنَتْهُ بِنَجَاسَةٍ وَكَذَا بِشَمْسٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ**

Amazzi g'ofumbisizza e **obukyaafu** [نَجَسٌ] n'amazzi g'oyanisseeko mu musana, ago amazzi
obulamuzi bwaago tebwaawukana, **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**, bweebumu,

١٦ **أَوْ كَانَ دُونَ الْقُلْتَيْنِ^(١) وَمَا بَدَأَ وَصَفُ النَّجَاسَةِ ظَاهِرًا لِعِيَانِ**

١٦ **أَوْ كَانَ دُونَ الْقُلْتَيْنِ**

Oba okuba nti amazzi gali wansi wa ((قَلَّةٌ)) mmeke?, tegaziweza, gali wansi wa ((قَلَّةٌ)) bbiri, e نَجْسٌ [obukyaafu] n'egagwaamu, naye;

وَمَا بَدَأَ وَصْفُ النَّجَاسَةِ ظَاهِرًا لِعَيَانِ

Amazzi gano negatakyuusa bitendo mu bitendo byaago, negasigala ku langi yaago newankubadde nga e نَجْسٌ [obukyaafu] egaguddemu, negasigala ku mpunya yaago, newankubadde nga e نَجْسٌ [obukyaafu] egaguddemu, negasigala ku mpooma yaago newankubadde nga e نَجْسٌ [obukyaafu] egaguddemu, ago amazzi gasigala gakyaali mazzi matukuvu newankubadde nga gali wansi wa ((قَلَّةٌ)) bbiri tegaziwezezza.

١٦ أَوْ كَانَ دُونَ الْقَلْبَيْنِ^(١) وَمَا بَدَأَ وَصْفُ النَّجَاسَةِ ظَاهِرًا لِعَيَانِ

Obukyaafu bugagudde naye tegakyuusizza kitendo mu bitendo byaago.

١٧ وَكَذَلِكَ مَا اسْتَعْمَلْتَهُ بِطَهَارَةٍ فَالْحَقُّ فِي ذَا الْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ

N'amazzi agakozeseddwa mu kweetukuza, gasobola okuba nga gasamuse kuva ku biyungo nga wegadda mu mazzi omuntu geyetukuza nago, gasobola okuba nga gafissebufissi mu kyombo oluvannyuma lw'omuntu okuba ntinno ageetukuzaako, agambye ntinno;

١٧ وَكَذَلِكَ مَا اسْتَعْمَلْتَهُ بِطَهَارَةٍ فَالْحَقُّ فِي ذَا الْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ

Ekituufu ku miteeko gy'amazzi gonna agoogeddwaako, okutandikira ku mazzi omuntu gannyiseemu engalo nga yaakava mu tulo, kubanga agambye nti;

- ١٠ وَالْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ يَأْتِي
 ١١ فَاحْكُمْ بِهِذَا الْأَصْلَ دُونَ تَرَدُّدٍ
 ١٢ وَالْمَاءُ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ
 ١٣ مِنْ قَبْلِ غَسَلٍ، أَوْ خَلَّتْ بِقَلْبِهِ
 ١٤ أَوْ كَانَ بَيْنَ مَقَابِرٍ بَثْرًا بِهَا
 ١٥ وَكَذَا مَا سَخَّطَتْهُ بِنَجَاسَةٍ
 ١٦ أَوْ كَانَ دُونَ الْقُلْتَيْنِ^(١) وَمَا بَدَأَ

١٧ وَكَذَا مَا اسْتَعْمَلْتَهُ بِطَهَارَةٍ

Kati ejo emiteeko jonna gy'owulidde ayogera afundikira agamba nti;

فَالْحَقُّ فِي ذَا الْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ

Ekituufu ku miteeko j'amazzi jonna ejo egyoogeddwaako, nga ekyo tukyoogera tusinziira ku bujulizi.

١٨ هُوَ مَا تَقَرَّرَ سَابِقًا فِي أَصْلِنَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مِنَ حَرَّانِ^(٢)

Ekituufu!, ekigambo ekituufu ku mazzi gonna ago g'owulidde tumenya, okutandikira ku mazzi omuntu geyannyiseemu engalo nga avudde mu tulo nga tasoose kuzinaabako bbali okutuuka ku mazzi omuntu g'akozesezzaako mu kweetukuza,

فَالْحَقُّ فِي ذَا الْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ

Ekituufu ku mazzi ago nga tweyaambisa bujulizi, tweseembesa bujulizi ku kituufu kino,

١٨ هُوَ مَا تَقَرَّرَ سَابِقًا فِي أَصْلِنَا

Ky'ekigambo kiri kyetwaddinganye emabega eky'okuba nti amazzi ekikolo ku ggo kubeera matukuvu, ekyo ky'ekigambo ekituufu ku miteeko j'amazzi ejo

jonna, ago amazzi gabeera matukuvu teri kisobola kugakyaafuwaza, ekyo ky'ekituufu ku mazzi gonna agamenyedwa wansi awo, era n'akugamba nti:

وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مِنْ حَرَّانٍ (٢)

Ky'ekigambo kya شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ eyali azaalibwa mu kaalo kebayitibwa "حَرَّانُ".

١٩ وَإِذَا شُكِّتَ بِحُبِّ مَاءٍ فَاعْتَمِدْ أَصْلَ الطَّهَّارَةِ يَا أَخَا الْعِرْفَانَ

Singa obuusabuusa mu butukuvu bw'amazzi oba obukyaafu bwaago, akugambye nti:

فَاعْتَمِدْ أَصْلَ الطَّهَّارَةِ

Weesigamire ekikolo ku mazzi, **ekikolo ku mazzi kiri kki?**, kuba nti mazzi matukuvu, okujjako singa obadde okakasa bulungi nnyo nti amazzi gano gakyaafuwadde nga okubusabuusa okuyina mu bukyaafu, gaatukudde oba tegaatukudde?, era y'ensonga eddako wansi, gaatukudde oba tegaatukudde?, naye bwekiba nga obadde okakasa nti amazzi gano matukuvu, n'obuusabuusa mu bukyaafu bwaago, gakyaafuwadde oba gakyaali matukuvu?, aggambye nti:

((فاعتمد أصل الطهارة يا أخا العرفان)), weesigamire ekikolo eky'okuba nti amazzi gano gakyaali matukuvu.

Kati ate singa gaba g'akyaafuwadde nga ekyo okikakasa, nga g'akyaafuwadde nkikakasa, nembuusabuusa mu buutukuvu bwaago?_.

٢٠ قَالُوا: وَيَطْهَرُ مَا تَنْجَسَ وَصَفَهُ بِثَلَاثَةٍ: إِمَّا إِضَافَةٌ ثَانٍ

Abamanyi batugamba nti amazzi gonna agakyaafuwadde gatukula mu ngeri ssatu, engeri esooka: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ.

٢١ أَوْ نَزْحَةٍ حَتَّى تَزُولَ صِفَاتُهَا أَوْ زَالَ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ إِنْسَانٍ

Bwekiba nga e **نَجَسٌ [obukyaafu]** eyagaguddemu osobola okujijamu n'engalo jijjeemu amazzi gasobole okudda mu nteeko, oba okuba nti amazzi gano gagenda kutukula nga ssi muntu y'akikoze, enkuba y'etonnye, kibuyaga y'afuuye, amazzi okukkakkana nga obukyaafu obubadde bw'agaguddemu buvuddemu embeera nedda mu nteeko, langi eyabadde yayoonese n'etereera, empunya eyabadde yayoonese n'etereera, empoma eyabadde yayoonese n'eterera.

Bannange ebyo byonna obujulizi kubyo, hadith zino ebbiri oba essatu;

- ❖ Hadith ya **((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ...))**: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
- ❖ Hadith ya **((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ))**: أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ

رواية [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] endala,

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bweppo ne hadith ya **((الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ))**, egamba nt: **((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَجْمَلِ الْخَبَثَ))**, oba, **((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَجْمَلِ الْخَبَثَ))**, mu **رواية [Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** endala, **((لَمْ يَنْجُسْ))**.

بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَجَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا

